

# Psa

## Chapter 1

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	אֲשֶׁר־	הָאִישׁ	וְאִשְׁרָ	לֹא	הָלַךְ	בְּעֵצָה	רְשָׁעִים	וּבְדֶרֶךְ	חַטָּאִים	לֹא
	مبارک	-وہ-آدمی	جو	نہیں	چلا	-مشورے-میں	شریروں-کے	اور-راستے-میں	گنہگاروں-کے	نہیں
	<a href="#">H0835</a>	<a href="#">H0376</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H1980</a>	<a href="#">H6098</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H2400</a>	<a href="#">H3808</a>
	עָמַד	וּבְמִוֶשֶׁב	לָצִים	לֹא	יָשָׁב:					
	کھڑا-ہوا	اور-مجلس-میں	ٹھنھا-کرنے-والوں-کی	نہیں	بیٹھا					
	<a href="#">H5975</a>	<a href="#">H4186</a>	<a href="#">H3887</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3427</a>					

بے بیٹھتا ساتھ کے زنون طعنہ نہ اور رکھتا، قدم پر راہ کی گاروں گناہ نہ چلتا، پر مشورے کے بے دینوں نہ جو وہ بے مبارک

2	כִּי	אִם	בְּתוֹרַת	יְהוָה	חָפְצוֹ	וּבְתוֹרָתוֹ	יְהוָה	יּוֹמָם
	بلکہ	اگر	-شریعت-میں	یہوواہ-کی	اُس-کی-خوشی	اور-اُس-کی-شریعت-میں	وہ-غور-کرتا-ہے	دن
			<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2656</a>	<a href="#">H8451</a>	<a href="#">H1897</a>	<a href="#">H3119</a>
	וְלַיְלָה:							
	اور-رات							
	<a href="#">H3915</a>							

بے رہتا کرتا خوض و غور پر اسی رات دن اور ہوتا اندوز لطف سے شریعت کی رب بلکہ

3	וְהָיָה	כְּעֵץ	שְׁתוּל	עַל-	פְּלִי	מִים	אֲשֶׁר	אֶפְרָיִם	יְהוָה	בְּעֵתוֹ
	اور-وہ-ہوگا	-درخت-کی-مانند	لگایا-ہوا	-پر	نہروں	پانی-کی	جو	اپنا-پھل	دیتا-ہے	اپنے-موسم-میں
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H6086</a>	<a href="#">H8362</a>		<a href="#">H6388</a>	<a href="#">H4325</a>	<a href="#">H6529</a>	<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H6256</a>	
	וְעָלָה	לֹא-	יָבוּל	וְכָל	אֲשֶׁר-	יַעֲשֶׂה	יִצְלַח:			
	اور-اُس-کا-پتا	نہیں	مرجھاتا	اور-ہر	جو-کچھ	وہ-کرتا-ہے	کامیاب-ہوتا-ہے			
	<a href="#">H5929</a>	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H3605</a>						

بے کامیاب وہ میں اُس کرے بھی کچھ جو مُرجھاتے۔ نہیں پتے کے اُس اور لاتا، پھل وہ پر وقت ہے۔ مانند کی درخت لگے پر کنارے کے نہروں وہ

4	לֹא-	כִּן	הַרְשָׁעִים	כִּי	אִם-	כְּזוֹן	אֲשֶׁר-	תִּדְרֹגוּ	רִיחַ:
	نہیں	ایسے	شریر	بلکہ	بلکہ	-بھوسے-کی-مانند	جسے	اُڑا-لے-جاتی-ہے	ہوا
	<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7563</a>			<a href="#">H4671</a>		<a href="#">H5086</a>	<a href="#">H7307</a>

بے جاتی لے اُڑا ہوا جسے ہیں مانند کی بھوسے وہ ہوتا۔ نہیں حال یہ کا بے دینوں

5	עַל-	וְכִן	לֹא-	יִקְמוּ	רְשָׁעִים	בְּמִשְׁפַּח	חַטָּאִים	בְּעֵרַת	צְדִיקִים:
	-پر	اس-لے	نہیں	کھڑے-ہوں-گے	شریر	-عدالت-میں	اور-نہ-گنہگار	-جماعت-میں	راستبازوں-کی
			<a href="#">H3808</a>		<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H2400</a>	<a href="#">H5712</a>	<a href="#">H6662</a>

گا۔ بو نہیں مقام میں مجلس کی بازوں راست کا گار گناہ اور گے، رہیں نہیں قائم میں عدالت بے دین لئے اِس

6	כִּי-	יִזְרַע	יְהוָה	דֶּרֶךְ	צְדִיקִים	וְדֶרֶךְ	רְשָׁעִים	תֵּאבֵד:
	کیونکہ	جاننا-ہے	یہوواہ	راہ	راستبازوں-کی	اور-راہ	شریروں-کی	ہلاک-ہوگی
		<a href="#">H3045</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H6662</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H0006</a>

گی۔ جائے بو تباہ راہ کی بے دینوں جبکہ بے کرتا داری پہرا کی راہ کی بازوں راست رب کیونکہ